

# 12

# مقامی تناظر میں CCT پروجیکٹ

”تین سال قبل ہندوستان ایک IT سپر پاور کے طور پر ابھر رہا تھا۔ آج یہ ملک پوری دنیا میں مشکل ترین پروجیکٹ کو سنبھال رہا ہے۔“  
بل گیئس، 30 جولائی 2004

## مقاصد

اس باب کو مکمل کرنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ

- ای-گورننس (e-Governance) کے معنی سمجھ سکیں،
- نیشنل ای-گورننس پلان (NeGP) کو بیان کر سکیں،
- گورننس کے نقطہ نظر سے ای-گورننس کی مناسبت کو سمجھ سکیں،
- ای-گورننس کی ساخت کو ملحوظ رکھ سکیں،
- ہندوستان میں ای-گورننس کے طور طریقوں کے ارتقا کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور
- مقامی تناظر میں ای-گورننس کی سمت حکومت کی جانب سے کی گئی پیش قد می کو پہچان سکیں گے۔

## تعارف

ہمارے روزمرہ کے مسئللوں کو حل کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے متعدد خدمات (Services) فراہم کی جاتی ہیں۔ CCT میں ہونے والی ترقی کے ساتھ ساتھ حکومت نے اپنے کام کاچ کے طریقے کی جدید کاری کے لیے مختلف کمپیوٹر کیونکیشن ٹولز اور ٹینکنالوجی کو استعمال کرنے کی سمت میں کئی اقدامات کیے ہیں۔ اس سے خدمات کو آسانی سے فراہم کرنے اور ان خدمات تک عوام کی رسائی کو آسان بنانے میں مدد ملی ہے۔ اس نے خدمات کے فراہم کاروں (حکومت) اور خدمات کے صارفین (عوام/شہریوں) دونوں ہی کو متاثر کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر پروجیکٹ پر بہتر خدمات، کارکردگی اور شفافیت کے مقصد سے CCT کا استعمال کرنے کے لیے مقامی ضرورتوں کے تحت عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ مختلف ریاستی حکومتیں مقامی تناظر میں ان پروجیکٹوں کو نافذ کر چکی ہیں۔

یہ باب آپ کو سماج کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے والے پروجیکٹ کو نافذ کرنے کے لیے سرکاری اقدامات سے متعارف کرائے گا۔

### 12.1 ای-گورننس کی ضرورت

کوئی بھی تنظیم چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ، اگر وہ IT میں عالمی سطح پر ہونے والی توسعے کے

ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے اہل نہیں ہے تو وہ دوڑ میں پچھر جائے گی۔ ظاہر ہے تیز رفتار دنیا میں صارفین کی تقاضات غیر ضروری تاخیر کو بروادشت کرنے کے تحمل نہیں ہوتیں۔ لہذا اگر کوئی بھی تنظیم اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ تک پہنچنے کے لیے یہی ناوجی کا استعمال کر کے بدلتے ہوئے پیٹریں سے مطابقت پیدا کرے۔ کسی بھی ملک میں وہاں کی سرکار سب سے اہم خدمت کی فراہم کار سروس پروڈائر ہے اور اس بات کے لیے جواب دہ بھی ہے کہ اس کے شہری ملک کے وسائل سے فائدہ اٹھائیں۔ یعنی سے آراستہ ہونے کے لیے سرکار کے ذریعہ کیے گئے مختلف اقدامات ای۔ گورننس کے مختلف عناصر کی تشکیل کرتے ہیں۔

## 12.2 ای۔ گورننس کی تعریف

ای۔ گورننس سے مراد ہے سطح پر معلوماتی (Informational) اور لین دین سے متعلق (Transactional) تباہلات کی کارکردگی، اثر پذیری، شفافیت اور جواب دہی کو مزید تقویت دینے کے لیے CCT کا استعمال۔ یہ تباہلات مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں:

- سرکار کے اندر یعنی سرکار اور قومی، ریاستی، میونسل اور مقامی سطح کی سرکاری ایجنسیوں کے درمیان،
- شہریوں اور سرکار کے درمیان۔

ای۔ گورننس کا مقصد ہے معلومات (Information) تک رسائی اور اس کے استعمال کے ذریعہ شہریوں کو مزید اختیارات فراہم کرنا۔

## 12.3 ای۔ گورننس سے امیدیں

ای۔ گورننس کے ذریعہ فراہم کی جانے والی خدمات دیر پا (Sustainable) اور مقامی ضروریات کے اعتبار سے کفایتی اور خاص طور سے تیار کی ہوئی (Customised) ہونی چاہئیں تاکہ سماج کے سبھی طبقات اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ان کے ذریعہ فراہم کردہ خدمات قابل اعتماد، مصدقہ، وقت کی پابند اور ایسی شکل میں ہونی چاہئیں کہ وہ استعمال کنندہ کے لیے آسان ہوں۔ اسے مقصد کی تکمیل کے لیے مکمل خدمات فراہم کرنے کی غرض سے تیار کیا جاتا ہے۔

ایم۔ گورننس (m-Governance) کو ای۔ گورننس خدمات کے مستقبل کی شکل میں دیکھا جاسکتا ہے جو موبائل آلات سے لیس لیپ ٹاپ، پام ٹوپ، موبائل فون وغیرہ جیسے آلات کے استعمال کے ذریعہ کسی بھی وقت اور کہیں بھی ای۔ گورننس خدمات تک رسائی اور ناگزیریت (Inevitability) کو یقینی بنائے گی۔

## 12.4 سرکار کی طرف سے کی جانے والی پیش قدمی

### 12.4.1 گورننس پروجیکٹ


زیادہ تر ای۔ گورننس پروجیکٹ کو مختلف مقاصد کے حصول کے لحاظ سے تیار کیا جاتا ہے مثلاً رسائی کو آسان بنانا، ایسے طبقات تک رسائی کو ممکن بنانا جو اس سے محروم ہیں، خدمات کی فراہمی میں شفافیت پیدا کرنا، لین دین سے متعلق کارروائیوں (Transaction Procedures) کو سہل بنانا، شہریوں اور سرکار دوںوں کے لیے لگت کوکم سے کم کرنا، سرکاری محاصل میں اضافہ کرنا، لین دین میں

لگنے والے وقت کو کم کرنا، بھتیرین طور طریقوں کو اختیار کرنا اور ان کی جدید کاری۔  
ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعہ ان پروجیکٹوں کا نفاذ مرکزی سرکار، ریاستی سرکار، صلح کی سطح پر اور گاؤں کی سطح پر عام لوگوں کی زندگی کو بہتر بنادیتا ہے۔

### نیشنل ای-گورننس پلان (NeGP)

NeGP منصوبہ (2003-2007) کو حکومت اطلاعاتی ٹیکنالوجی (DIT) و وزارت موصلات و اطلاعاتی ٹیکنالوجی، حکومت ہند کے ذریعہ ہمارے ملک میں ای-گورننس کی طویل مدتی ترقی کے لیے پیش قدمی کرنے اور فراہم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل مقصد کے پیش نظر وضع کیا گیا تھا:

”مشترک سروس ڈیلیوری آؤٹ لائٹ کے ذریعہ تمام سرکاری خدمات تک ایک عام آدمی کی رسائی کو ممکن بنانا اور ایک عام آدمی کی بنیادی ضرورتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مناسب خرچ پر ان تمام خدمات کی کارکردگی، شفافیت اور اس کی اعتمادیت کو یقینی بنانا۔“  
NeGP کا مقصد ان طریقوں میں تبدیلی اور سدھارانا ہے جن کے ذریعہ سرکار اپنے شہریوں کو خدمات فراہم کرتی ہے اور انھیں کم لاگت اور شفاف خدمات کے حصول کے سلسلے میں با اختیار بناتی ہے۔



شكل 12.1 : NeGP کے تحت ای-گورننس ساخت  
ماخذ: DIT، وزارت برائے موصلات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی

NeGP کی ساخت تین سطحوں پر مشتمل ہے: تنی سطح، ٹکنالوژی کی سطح اور استعمال کنندہ کی سطح۔ NeGP تحت جس بنیادی ڈھانچہ (انفرا اسٹرکچر) کو مشترک طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے:

(a) بالکل بنیادی سطح پر الیکٹرانک ذریعہ سے خدمات کی فراہمی کو آسان بنانے کے لیے مشترک خدماتی مرکز (Common Services Centres)

(b) اسٹائیٹ وائیڈ ایریا نیٹ ورک (SWANs)

(c) اسٹائیٹ ڈیٹا سینٹر (SDCs)

### ہندوستانی زبانوں کے لیے ٹکنالوژی میں ترقی (TDIL)

اطلاعاتی ٹکنالوژی کی وزارت نے TDIL پروگرام کی شروعات کی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ہے ہندوستانی زبانوں کے لیے انفارمیشن پروسینگ ٹولز اور ٹکنیکوں کے استعمال کو فروغ دینا۔ اس پروگرام کے کچھ مقاصد مندرجہ ذیل ہیں:

- ہندوستانی زبانوں اور کشیر لسانی معلومات کے وسائل میں انسان اور ماشین کے درمیان تفاعل (Interaction) میں معاونت کرنا۔

- ہندوستانی زبانوں کے لیے فروغ دی گئی ٹکنیکوں کو جمع کرنا (Consolidate) اور استعمال کنندہ کے لیے اختراعی حاصلات (Products) اور خدمات مثلاً کشیر لسانی لغات، انسائیکلو پیڈیا، GCWS (Gyan-nidhi Creative Writing System)، تکلم (Speech-To-speech)، متن-تکلم (Text-To-speech) اور متن شناسی نظام (Text Recognition System)، پاکیٹ ٹرانسلیٹر، نایبنا اور سماحت سے معذور افراد پر ٹل کے لیے ریڈنگ مشین وغیرہ کو فروغ دینے کے لیے انھیں سمجھا کرنا۔

- مناسب ٹکنالوژی کا فروغ اور ہندوستان کی جن ریاستوں میں ہندی بولی جاتی ہے وہاں کی موجودہ ٹکنالوژی کے خلاف پرکرنا۔

#### 12.4.2 ای-گورننس پروجیکٹ— مقامی تناظر میں

مختلف ریاستوں میں علاقائی زبانوں میں کئی پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کو اس کی اپنی قابل فہم زبان میں ٹکنالوژی کے ذریعہ مختلف خدمات اور اسکیوں کو مہیا کرانا ان پروجیکٹوں کا اہم مقصد ہے۔ IT پرمنی ان پروجیکٹوں کے ذریعہ سرکار مندرجہ ذیل باقتوں کو یقینی بنانے کی کوشش کرتی ہے:

- انفارمیشن ٹکنالوژی سے آرستہ خدمات کے تین بیداری کو بڑھانا
- IT کی پہنچ میں بہتری لانا
- علاقائی زبان میں IT سے متعلق آموزشی مواد کی دستیابی
- معیار ہندی (Standardisation)

### 12.4.3 مشن موڈ پروجیکٹ (MMPs)

متعدد مشن موڈ پروجیکٹ (MMPs) نے مرکزی اور ریاستی سرکار کی سطح پر مختلف پروجیکٹوں کو نافذ کرتا ہے۔ NeGP

Central MMPs	State MMPs	Integrated MMPs
• Income Tax	• Agriculture	• e-BIZ
• Customs and Central Excise	• Land Records	• EDI(Electronic Data Interchange)
• Passports/Visa and Immigration	• Transport	• India Portal
• MCA 21	• Treasuries	• Common Service Centres (CSC)
• National ID	• Commercial Taxes	• EG Gateway
• Pensions	• Gram Panchayats	• e-Procurement
• e-Office	• Municipalities	• e-Courts
• Banking	• Registration	
• Insurance	• Police	
	• Employment Exchange	
	• e-District	

ماخذ: DIT، وزارت مواصلات و اطلاعاتی ٹیکنالوجی

### 12.5 ای-گورننس پروجیکٹ کے تحت آنے والے شعبے

کچھ ایسے ملکے اور خدمات جہاں ای-گورننس کا اطلاق ہوتا ہے مندرجہ ذیل ہیں:

• عوامی شکایات: بجلی، پانی، ٹیلی فون، راشن کارڈ، صفائی سترہائی، عوامی نقل و حمل کے ذرائع، پوس۔

• دیپی خدمات: زمین کے ریکارڈ، خط افلاس کے نیچے زندگی بس کرنے والے (BPL) / معافی طور پر کمزور طبقات (EWS) سے متعلق کنبے۔

• پوس: الیف-آلی-آر (FIR) کا اندراج، سامان اور افراد کی گشداری اور ان کی تلاش۔

• سماجی خدمات: پیشن، بیوائیں، اسکیم، Ex-gratia تحریصیں، بازآباد کاری اور معاوضہ، لائسنس اور سرٹیفیکیٹ کار جریشنا، راشن کارڈ، پیدائش سرٹیفیکیٹ، جائے سکونت سے متعلق سرٹیفیکیٹ، ذات/قیلہ کا سرٹیفیکیٹ، ہتھیاروں سے متعلق لائسنس کی تجدید، دستاویزات کار جریشنا، اسکول رجسٹریشن، یونیورسٹی رجسٹریشن، موٹر گاڑیوں کار جریشنا، ڈرائیور گنگ لائسنس۔

• عوامی معلومات: روزگار دفتر (Employment Exchange) میں رجسٹریشن، روزگار کے موقع، امتحانات کے

تائج، اسٹالوں کی دستیابی/خدمات، ریلوے کا نظام الاوقات (Railway Time Table)، ائیر لائنز نامہ ٹیبل، سڑک ٹرانسپورٹ سے متعلق ٹائم ٹیبل، امدادی ادارے، سرکاری اطلاع نامہ (Government Notification)، سرکاری فارم، سرکاری اسکیم۔

• نیوز (NEWS) خدمات: سول پلائی، بزرگ افراد کی پیشش، بیواعورتوں کی پیشش، معذور افراد کی پیشش/خدمات، کی ادائیگی۔

• زرعی سیکٹر: بیجوں کی معلومات، گھن مار دوانیں، مصنوعی کھاد، فصلوں کی بیماریاں، موسم کی پیشش گوئی۔ مختصر ریچ/ضلع وار، بازاری قیمت۔

• بلوں کی ادائیگی: بجلی، پانی، ٹیلیفون۔

• تجارتی: ٹیکس اور ریٹن جمع کرنا، آمدنی ٹیکس، کار پوریٹ ٹیکس، کشم ڈیوٹی، سینٹرل/اسٹیٹ ایکسائز ڈیوٹی، سیل ٹیکس، ہاؤس ٹیکس، پر اپر ٹیکس، آکٹوری، روڈ ٹیکس، کمپنی ریٹن۔

• سرکاری: الیکٹرانک تھکیل (Electronic Procurement)، تعلیم، ای-گورننس کے لیے یونیورسٹی ماذل۔

## 12.6 مختلف پروجیکٹوں کا نفاذ

جدول 12.1 : مختلف ریاستی سرکاروں کے ذریعہ نافذ کیے گئے کچھ پروجیکٹ

ڈپارٹمنٹ آٹومیشن، استعمال کنندہ سے فیس و صولی، پالیسی/پروگرام کی سپردگی اور زیر انتظام علاقے		ریاست/مرکز کے استحقاق کی سپردگی
آندھرا پردیش	e-Seva, CARD, VOICE, MPHS, FAST, e-Cops, AP online One-stop-shop on the Internet, Saukaryam, Online Transaction processing, India Health Care Project, BhuBharati	
آسام	e-Suvidha, Dharitri, ASHA, Samvad	
بہار	Sales Tax Administration Management Information, Flood Monitoring by Satellite Pictures, SCORE, VAT, Information Computerisation, ELECON	
چھتیس گڑھ	Chhattisgarh Infotech Promotion Society, Treasury office, e-linking project	
دہلی	Automatic Vehicle Tracking System, Computerisation of website of RCS office, Electronic Clearance System, Management Information System for Education, Delhi Slum Computer Kiosks Project, Smart Card Based Driving Licence and Vehicle Registration Certificate etc.	
گوا	Dharani Project, Municipal Administration Software	394

ગુજરાત	Mahiti Shakti, request for Government documents online, Form book online, G R book online, census online, tender notice, Jan Seva Kendras, Chiranjiv Yojana, NirmalGujarat
ہریانہ	Nai Disha, Janani Suvidha Yojana
ہماچل پردیش	Lok Mitra, Himachal Buses: Transport Tracker
جوہار و شمیر	DACNET
چھار کھنڈ	Treasury computerisation, Vahan, Sarathi, Land record Information System
کرناٹک	Bhoomi, Khajane, Kaveri, Krishi Marata Vahini, GramSwaraj Project
کیرل	e-Srinkhala, RDNet, Fast, Reliable, Instant, Efficient Network for the Disbursement of Services (FRIENDS), Akshaya, Asraya, SWIFT, PEARL
مدھیہ پردیش	Gyandoot, Gram Sampark, Smart Card in Transport Department, Computerisation MP State Agricultural Marketing Board (Mandi Board) etc., Head Start, RogiKalyan Samiti's
महाराष्ट्र	SETU, Online Complaint Management System Mumbai, Telemedicine Service in Pune Primary Health Centres, Warana-Wired Village Project
ଓଡ଼ିସ୍ୟ	GRAMSAT ORISSA Computer Application Centre
ਪੰਜਾਬ	Punjab Govt. On-line, e-procurement, e-district
rajस્ଥાન	Jan Mitra, RajSWIFT, Lokmitra, RajNIDHI, e-Mitra, SARATHI
ਸikkim	Sikkim Treasury Online, Payroll Information System
தமிழ்நாடு	Rasi Maiyams Kanchipuram, Application forms related to public utility, tender notices and display, Reginet, E-Registration Star
تری پورہ	Gramoday, Hospital Management System, Vahan, e-Suvidha Kendras
ଆରୋହି	Saksham, Aarohi, Computerisation of Urban development department
ଆତ୍ମପରଦିଶ	Lok Vani, e-Suvidha, Bhulekh, Koshvani, PRERNA
মগଳିବାଗ	Tele Medicine-Midnapur, Smart Card based Driving License and Registering Certificate using Sarathi, Computerisation of Government Departments, Kolkata Police Intranet and Computer Network

شمال-شرقی ریاستیں: اروناچل پردیش، منی پور، میگھالیہ، میزورم اور ناغالینڈ	Community Information Centre. Forms available on the Meghalaya website under schemes related to socialwelfare, food civil supplies and consumer affairs, housing transport etc., e-Suvidha, Sarathi, Vahan, Transport Department Computerisation
انڈمان نکوبار جزر	Dweep Bhumi
چندی گڑھ	e-Sampark
دادرا اور نگر جوہلی	Suvidha
ڈمن اور دیو	Suvidha
لکش دیپ	PORTNET, Ever Alert, Web Enabled Entry Permit Management System, Integrated e-Governance solution to Lakshadweep Electricity Department
پانڈت پکیری	Gazettes on web, ICT for fishermen community

### خلاصہ

- CCT کی آمد کے ساتھ ہی سرکار نے مختلف تکنیکوں کے استعمال کے ذریعہ اپنے کام کا ج کی جدید کاری کے لیے اقدامات کیے ہیں۔
- کئی ریاستی سرکاروں نے بھی مقامی تناظر میں ای-گورننس پروجیکٹ کو نافذ کیا ہے۔
- معلوماتی (Informational) اور لین دین متعلق تبادلات (Transactional Exchange) کی کارکردگی، اثر پذیری، شفافیت اور جواب دہی میں تبدیلی لانے کے لیے معلوماتی اور مواصلاتی شیکنا لو جی کا اطلاق ہی ای-گورننس ہے۔
- NeGP ای-گورننس کے لیے عوام مرکوز ماحول کی تشکیل کے لیے مرکزی اور ریاستی سرکار کی سطح پر متعدد مشن موڈ پروجیکٹوں (MMPs) کو نافذ کرتی ہے۔
- TDIL کا مقصد ہے ہندوستان کی علاقائی زبانوں میں خدمات فراہم کرنے کے لیے IT ٹاؤن کے استعمال کو فروغ دینا۔
- مقامی تناظر میں پروجیکٹ کا مقصد ہے، ایک عام آدمی کو اس کی اپنی قابل فہم زبان میں مختلف عوامی خدمات اور سیکیوریٹی کو مہیا کرانا۔

### مشقیں

#### محضر جواب والے سوالات

- 1- ای-گورننس کی تعریف بیان کیجیے۔
- 2- ای-گورننس کی کیا ضرورت ہے؟
- 3- ایم-گورننس کیا ہے؟
- 4- مندرجہ ذیل کے پورے نام لکھیے:

CSC •

NeGP •

SWAN •

SDC •

MMPs •

5۔ کچھ ای-گورنیس پروجیکٹوں کے نام بتائیے؟

### طویل جواب والے سوالات

- 1۔ ای-گورنیس سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور اس کے اجزاء کوں کون سے ہیں؟
- 2۔ کچھ ایسے پروجیکٹوں کے نام بتائیے جنہیں حال ہی میں آپ کی ریاستی/UT سرکاروں نے نافذ کیا ہے؟
- 3۔ ای-گورنیس کے نفاذ کے لیے سرکار نے حال ہی میں کیا پیش قدمی کی ہے؟
- 4۔ ایسے شعبوں/حکموں کے نام بتائیے جہاں ای-گورنیس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔
- 5۔ ایم-گورنیس کے ذریعہ فراہم کی جانے والی خدمات سے استعمال کنندگان کی کیا توقعات ہیں؟
- 6۔ ڈائیگرام کی مدد سے NeGP کا خاکہ (Architecture) واضح کیجیے۔
- 7۔ ہندوستانی زبانوں میں CCT ٹولز کے فروع کی سمت میں حکومت کے اقدامات کی وضاحت کیجیے۔
- 8۔ مثالوں کی مدد سے مقامی تناظر میں ای-گورنیس پروجیکٹ کے اطلاق سے بحث کیجیے۔